

Masnoon Duas

الدعاء مع العبادة

IDua ngumongo wonqulo

IDua eziyi 34 ezisisiseko ezisetyenziswa ngalo lonke ixesha

ITransliteration kunye nokuguqulelwa esiXhoseni
Kuququzelelwe ngu Moulana Muhsin Mbotoli

Le ncwadi ipapashwe yi Al Hidayah Centre, ayinayo imiqathango yokupapashwa kwayo esiyaziyo. (Masnoon Duas).

Iprintwe eMzantsi Afrika

Ukuprintwa kokuqala, 2023

ISBN:

978-0-7961-0593-6

KHUPHELA KWI EBOOK:

<http://alhidayah.co.za/masnoon-duas-xhosa/>

Ipapashwe yi:

Al Hidayah Centre, Eastern Cape

18 Bonaventure Crescent
Salsonville, Port Elizabeth

Telephone: 041 492 2773

Whatsapp: 041 492 2773 | <https://wa.me/27414922773>

Email: info@alhidayah.co.za

www.alhidayah.co.za



Inleiding

Le ncwadi iqulathe izikhungo (Duas) ezohlukeneyo zabantwana base Maktab (isikolo samabanga aphantsi enkolo ye-Islam) khona ukuze bazifunde ngalo lonke ixesha lobomi babo. Le ncwadi ikwaquka itransliteration eluncedo (kwabo bangakwaziyo ukufunda isi-Arabu) kunye nenguqulelo yazo ngolwimi lwesiXhosa.

Imvelaphi yazo apho zithatyathwe khona kwiQuran/Hadith nayo iqulathiwe kule ncwadi. Amanye amagama kwezinye zeeDua ezibalaseleyo ziye zalungiswa khona ukuze loo magama azokungqamelana namagama akhoyo kwiincwadi zokuqala zeHadith kangangoko sinako.

Abantu abadala nabo bangayisebenzisa le ncwadi khona ukuze baziqhelanise nezi Dua zibalulekileyo kwaye zikwasisixhobo esiluncedo kwabo basebatsha kwinkolo ye-Islam.

Siyacela ku- Allah Ta'ala ukuba ayomkele lemizamo yethu kwaye ayenze ibe yindlela yokufumana usindiso kuthi umbhali wayo kunye nabapapashi bayo.



Inhoud

1. IDua xa sivuka ebuthongweni
2. IDua xa sizakulala
3. IDua xa sizakulala 2
4. IDua phambi kokuba ungene kwindlu yangasese
5. IDua xa uphuma kwindlu yangasese
6. IDua phambi kokwenza iwudhu
7. IDua emva kokwenza iwudhu
8. IDua xa kuphuma ilanga
9. IDua xa uphuma ekhayeni
10. IDua xa ungena ekhayeni
11. IDua xa unxiba impahla
12. IDua phambi kokuba utye ukutya
13. IDua xa uthe walibala idua yaphambi kokutya
14. IDua emva kokutya ukutya
15. IDua xa uzibuka esipilini
16. IDua emva kokusela ubisi
17. IDua xa ungena kwisithuthi
18. IDua xa isithuthi sihamba
19. IDua xa usehla esithuthini
20. IDua xa ungena emasjid
21. IDua xa uphuma emasjid
22. IDua emva kwe azhaan
23. IDua xa usiva umqhagi ukhala
24. IDua xa unomsindo okanye kukhala idonki okanye kukhonkotha inja
25. IDua xa kubaneka kwaye kududuma
26. IDua xa kunetha imvula
27. IDua xa ubona inyanga
28. IDua xa utyelela isigulane
29. IDua xa uzakuzila ukutya
30. IDua emva kokuzila ukutya
31. IDua xa ucela izinto ozifunayo ku-Allah
32. IDua sokongezelelwa ulwazi
33. IDua sokucelela iimfuno zakho
34. IDua esenzelwa abazali

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا
أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Alhamdu lillahilazi ahyaanaa ba da ma amaa tanaa wa
ilayhin nushoor*

Iindumiso (zonke) mazibe ku-Allah Yena uthe
wasinika ubom emva kokuba ebesenze sasweleka
kwaye sizakubuyela kuYe emva kokuba siswelekile.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Hlikihla intongo emehlweni.
2. Sebenzisa iMiswaak.
3. Hlamba izandla.

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Allahumma bismika amootu wa ahyaa

Hini na Allah! Ngegama lakho ndiyasweleka kwaye
(ngegama lakho) ndiyavuka.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Lala uneWudhu.
2. Vuthulula uthini emandlalweni.
3. Lala ngecala lasekunene.

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Allahumma qini azaabaka youma tajmau ibaadaka

Hini na Allah! Ndikhusele kwisohlwayo saKho ngemini (imini yomgwebo) apho Oyakuvusa ngayo izicaka zakho.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Lala uneWudhu.
2. Vuthulula uthini emandlalweni.
3. Lala ngecala lasekunene.

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Bismillah, Allahumma inni aoozubika minal khubusi wal
khabaaais*

IEgameni lika-Allah, Hini na Allah! Ndicela
ukukhuselwa nguwe kooSathana kunye neeJinn
ezingamadoda kunye nezingamabhinqa.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Ngena kwindlu yangasese ngonyawo lwasekhohlo.
2. Hlala phantsi uzithuma okanye uzakuchama.
3. Sebenzisa amanzi kunye nesandla sasekhohlo xa uzicoca.

غُفْرَانَكَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

*Ghufraanak, Alhamdu lillahillazi azhaba annil azaa wa
aafaanee*

Ndicela undixolele Hni na Allah! Iindumiso zonke zezika-Allah Yena wakhupha kum oko bekungcolile kwaye Wandipha ukhululeka.

(Ibn Majah)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Hlamba izandla.
2. Phuma ngonyawo lwasekunene.

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

رَوَاهُ الطَّبْرَانِي

Bismillahi wal hamdu lillahi

Egameni lika-Allah kwaye zonke iindumiso zezika-Allah.

(Tabrani)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Jonga ngase Qibla.
2. Musa ukumosha amanzi.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي
مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

*Allahummaj alnee minat tawwabeena waj alnee minal
mutatahhireena*

Hini na Allah! Ndenze omnye wabo baguqukela kuWe
ngamandla kwaye Undenze omnye wabo bacoceke
ngokugqithisileyo.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Yenza iWudhu entsha rhoqo isophuka iWudhu yakho.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنا يَوْمَنا هَذَا
وَلَمْ يَهْلِكْنا بِذُنُوبِنا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Alhamdu lillahilazi aqaalanaa yawmana haza wa lam
yuhlikna bi zunoobina*

Iindumiso zonke zezika-Allah Yena uthe wasinika le
mini kwaye Akasitshabalalisa ngenxa yezono zethu.

(Muslim)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Bulela u-Allah Ta'ala ngokuthi Akuphe olunye usuku.
2. Cela ukuxolelwa izono esizenza rhoqo.

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

*Bismillahi tawakkaltu alallahi, laa hawla wa laa quwwata
illa billah*

Egameni lika-Allah. Ithemba lam ndilibeke ku-Allah.
Akukho Mandla ngaphandle kuka-Allah.

(Abu Dawood, Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Thembela ku-AllahTa'ala ukuba Uzakukhusela amakhaya wethu.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ

الْمَخْرَجِ

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا

وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Allahumma inni asalooka khairal moulaaji wa khairal makhraji. Bismillahi waljna, wa bismillahi kharajna, alaa rabbina tawakkalna

Hini na Allah! Ndicela undinike ungena okungcono (kweli khaya) kunye nokuphuma okungcono. Egameni lika-Allah ndiyaphuma kwaye egameni lika-Allah ndiyangena kweli khaya kwaye kwiNkosi yethu (Allah) siyathembela kuYo.

(Abu Dawood)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Thembela ku-Allah Ta'ala ngokuthi Asike uphahla phezu kweentloko zethu.
2. Cela u-Allah Ta'ala ukuba enze amakhaya wethu abeyindawo yokukhululeka.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي
بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

*Alhamdu lillahillazi kasaani ma uwaaree bihi auratee, wa
atajammalu bihi fee hayatee*

Iindumiso zonke zezika-Allah Yena Uthe Wandambesa
ngempahla khona ukuze ndizokuhomba ngazo
ebomini bam.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Bulela u-Allah Ta'ala ngempahla athe wasinika yona.
2. Nxiba isihlangu kwinyawo lwasekunene kuqala. Iblukhwe uqale ngokunxiba umlenze wasekunene kunye nokuba uqale unxibe umkhono wasekunene.

بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

مُسْتَدْرَكِ حَاكِمِ

Bismillah wa barakatillah

Egameni lika-Allah kunye neentsikelelo zaKhe.

(Mustadrak Haakim)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Bulela u-Allah Ta'ala ngokutya athe wasinika kona.
2. Hlamba izandla.
3. Itya kwaye usele ngesandla sasekunene.
4. Hlala phantsi utye.

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Bismillahi awwalahoo wa aakhirahoo

Egameni lika-Allah ekuqaleni nasekugqibeleni.

(Abu Dawood)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Rhoqo bulela u-Allah Ta'ala ngezipho athe wasipha zona.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*Alhamdu lillahilazi atamanaa wa saqaanaa wa ja alanaa
muslimeen*

Iindumiso zonke zezika-Allah Yena Uthe Wasinika ukutya kwaye wasinika okuselwayo (amanzi) kwaye Wasenza sangabo bangamaMuslim.

(Abu Dawood)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Coca ipleyiti.
2. Itya konke ukutya.
3. Khotha izandla emva kokutya.
4. Coca itafile ubutyela kuyo.
5. Hlamba izandla.

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

Allahumma hassanta khalqee fa hassin khulooqee

Hini na Allah! Uyihombisile inkangeleko yam, ndicela uhombise indlela yam yokuziphatha.

(Ibn Hibban)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Bulela u-Allah Ta'ala ngendlela athe wasidala ngayo.
2. Yazi ukuba ubuhle yinto ekwakuwe nawe buqu.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Allahumma baarik lanaa feehi wa zidnaa minhoo

Hini na Allah! Faka iintsikelelo kweli bisi kwaye Usike oluninzi.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Cela u-Allah Ta'ala ukuba asisikelele kwizinto zonke athe wasinika zona.
2. Cela u-Allah Ta'ala ukuba asongezelele kuko konke okulungileyo.
3. Yiba nombulelo kwizinto zonke kuquka noko kuncinane.

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Subhanallazi sakhkhara lanaa haazaa, wa maa kunna
muqrineen, wa inna ilaa rabbina lamoona qaliboon*

Uzuko malube ku-Allah Yena Wenze oku (esisithuthi) saphantsi kolawuleko, kuba ukuba bekungaphandle ngesingakhange sikwazi ukusilawula. Inene sizakubuyela eNkosini yethu.

(Muslim)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Masizikhumbuze ukuba u-Allah Ta'ala nguyey osinike oko sihamba ngako.
2. Zithobe kwaye wazi ukuba nathi ngenye imini sizakusweleka.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ
رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

القرآن الكريم 11:41

*Bismillahi majrair haa wa mursaahaa inna rabbi la
Ghafoorur raheem*

Egameni lika-Allah, ukuhamba kunye nokuma kwaso (esisithuthi). Inene iNkosi yam nguMxoleli wento zonke kwaye unguSozinceba.

(IQuran Engcwele 11:41)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Iintshukumo zethu zonke zenzeka ngemvume ka-Allah Ta'ala.
2. Khumbula ukuba u-Allah Ta'ala uhlala elindele ukusixolela.

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ

الْمُنْزِلِينَ

إِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ

*Rabbi anzilnee munzalam mubaarakaw wa anta khairul
munzileen*

Hini na Nkosi yam! Ndenze ndohlike endaweni esikekelelikileyo. Kaloku Nguwe Onika indawo yokwehla.

(Ibn Abi Shaybah)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. U-Allah Ta'ala nguye yedwa okwaziyo ukusijika sibengcono isimo sethu.
2. Cela ku-Allah Ta'ala okulungileyo naphina apho sizibona sikhona.

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allahummaf tahlee abwaaba rahmatika

Hini na Allah! Ndivulele iingcango zenceba yakho.

(Muslim)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Yiba neWudhu.
2. Ngena ngonyawo lwasekunene.
3. Thandaza iiRakaat ezimbini xa ungena eMasjid.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allahummaf innee as alooka min fadlika

Hini na Allah! Ndicela ubabalo lwakho.

(Muslim)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Phuma ngonyawo lwasekhohlo.
2. Yiba nenjongo yokuba kungekudala uzaphinda ubuye.

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ
 الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا نِ الوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
 وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ
 لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

رَوَاهُ البُخَارِي

Allahumma rabba hazihid da watit taamma, was salaatil qaaima, aati muhammada nil waseelata wal fadeelata, wab as hoo maqaamam mahmooda nillazi wa attahu, innaka laa tookhliful mee aad

Hini na Allah! Nkosi yesisimemezo sigqibeleleyo kunye nalo mthandazo uzakuqalisa. Nika uMuhammad amandla wokuba ngumthetheleli. Kwaye Umphakamise kwi Maqaame Mahmood Ubumthembise ngayo. Inene Wena Akwenzi ngokukhabanayo nesithembiso sakho.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Qaphela amaxesha emithandazo yonke.
2. Sabela ikhwelo le-Azhaan ngembeko.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allahummaf innee as alooka min fadlika

Hini na Allah! Ndicela undiphe ubabalo lwakho.

(Muslim)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Rhoqo cela uncedo kunye nenceba ku-Allah Ta'ala.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Aoozu billahi minas shaytaanir rajeem

Ndicela ukukhuselwa ngu-Allah kuSathana
oqalekisiweyo.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. U-Allah Ta'ala nguyey onokusincedisa ekulweni uSathana.
2. Ukhuseleko lwethu lokwenene lusezandleni zika-Allah kuphela.

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

*Allahumma laa taqtulnaa bi ghadabika wa laa tuhliknaa bi
azaa bika wa aafinaa qabla zaalika*

Hini na Allah! Musa ukusibulala ngenxa yomsindo waKho kwaye Ungasitshabalalisi ngesohlwayo saKho. Sicela Usikhusele phambi kwenzeke oko.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Yomkele into yokuba u-Allah unguSomandla.
2. Siphila ngenxa yeenceba zika-Allah kwaye sifuna ukhuselwa nguye.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Allahumma sayyiban naafiaa

Hini na Allah! Sinike imvula elulutho.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. U-Allah Ta'ala yonke into eluncedo ivela.
2. KuYeU-Allah Ta'ala nguYe olawula imvula ukuba ibeluncedo okanye yonakalise.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Aoozu billahi min sharri haazal ghaasiq

Ndicela ukhuselwa ngu-Allah kububi bobubumnyama.

(Tirmidhi)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Iimeko zonke zintle okanye zimbi ngu-Allah Ta'ala onikezela isigqibo.

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Laa ba sa tahooroon insha Allah

Musa ukuyika! Esi (sigulo) siyakubangela uhlanjululwe esonweni, ukuba u-Allah ufuna njalo.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Kufuneka sibane sizikhumbuza ukuba u-Allah Ta'ala ngamanye amaxesha ubeka okuhle nasekubeni iimeko zingabonisi okuhle.
2. Inceba ka-Allah ikwabo bagulayo.
3. Khuthaza kwaye unike ithemba kwabo bazibona besebunzimeni.

اللَّهُمَّ أَصُومُ غَدًا لَّكَ فَيَسِّرْهُ لِي
وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

Allahumma asoomoo ghadallaka fayassir hoo lee wa taqabbalhoo minnee

Hini na Allah! Ndizakuzila ukutya ngomso ngenxa yaKho. Ndicela Ukwenze kubelula kum kwaye ukomkele kum (okokuzila).

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Vuka ekuseni utye phambi kokuba uzile.
2. Zonke izenzo ezihle kufuneka uziqale ngenjongo elungileyo.

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ

أَفْطَرْتُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Allahumma laka soomtoo wa alaa rizqika aftartoo

Hini na Allah! Ndiye ndazila ngenxa yaKho, kwaye ngokutya othe Wasinika kona ndikhulula inzila yam.

(Abu Dawood)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. U-Allah Ta'ala nguYe ondiphe amandla wokuba ndikwazi ukuzila ukutya ngenxa yaKhe kuphela.
2. Akufuneki udukise xa uzakukhulula inzila.
3. Kufuneka sikuvume ukuba nokutya esithi sikhulule ngako inzila sikunikwe ngu-Allah.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رَوَاهُ البُخَارِي

*Rabbanaa aatinaa fid dunya hasanataw wa fil aakhirati
hasanataw wa qinaa azaaban naari*

Hini na Nkosi yethu! Sinike okulungileyo kwelihlabathi, kwaye usinike okulungileyo kwixesha elizayo. Sicela usikhusele kwisohlwayo sesihogo.

(Bukhari)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Rhoqo kufuneka sikhumbule ukuba konke okulungileyo esikufumanayo ngu-Allah osinikayo.

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

القرآن الكريم 20:114

Rabbee zidnee ilman

Hini na Nkosi yam! Ndandisele ulwazi.

(IQuran Engcwele 20:114)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Ngalo lonke ixesha khangela iindlela ezahlukeneyo onokuthi wongeze ngazo ulwazi.
2. Yenza imigudu yokufumana ulwazi kodwa ngaxesha linye ube usenza neDua.

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ

عِبَادَتِكَ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*Allahumma ainna alaa zikrika, wa shukrika, wa husni
ibaadatika*

Hini na Allah! Ndincede ukuba ndikukhumbule kwaye
ndikubulele kwaye ndikunqule kakuhle.

(Abu Dawood)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. Cela ku-Allah Ta'ala ukuba asincedise ukuba sizihlambulule.
2. Khona ukuze sihlale sithobekile kufuneka kwinto yonke esiyenzayo siyivume ukuba amandla okuyenza siwaphiwe ngu-Allah Ta'ala.

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

القرآن الكريم 17 : 23

Rabbir hum hooma kamaa rabbayaanee sagheera

Hini na Nkosi yam! Banike inceba bobabini njengokuba bandikhulisa ndisemncinci.

(IQuran Engcwele 17:23)

IMIMISELO YOKUZIPHATHA

1. U-Allah Ta'Ala nguYe osinike abazali ukuba basikhathalele ngethuba sibancinane sibuthathaka.
2. Kufuneka siqhubekeke sisenzela idua bonke abo bathi bayinxalenye yethu ebomini kwaye basincedisa.

Masnoon Duas

Le ncwadi iqulathe izikhungo (Duas) ezohlukeneyo zabantwana base Maktab (isikolo samabanga aphantsi enkolo ye-Islam) khona ukuze bazifunde ngalo lonke ixesha lobomi babo. Le ncwadi ikwaquka itransliteration eluncedo (kwabo bangakwaziyo ukufunda isi-Arabu) kunye nenguqulelo yazo ngolwimi lwesiXhosa.

Imvelaphi yazo apho zithatyathwe khona kwiQuran/Hadith nayo iqulathiwe kule ncwadi. Amanye amagama kwezinye zeeDua ezibalaseleyo ziye zalungiswa khona ukuze loo magama azokungqamelana namagama akhoyo kwiincwadi zokuqala zeHadith kangangoko sinako.

Abantu abadala nabo bangayisebenzisa le ncwadi khona ukuze baziqhelanise nezi Dua zibalulekileyo kwaye zikwasisixhobo esiluncedo kwabo basebatsha kwinkolo ye-Islam.

SCAN TO
DOWNLOAD



Khuphela kwi ebook:
www.alhidayah.co.za/masnoon-duas-xhosa/



- 041 492 2773
- info@alhidayah.co.za
- 18 Bonaventure Crescent, Port Elizabeth
- 041 492 2773 <https://wa.me/27414922773>
- www.alhidayah.co.za



Ipapashwe yi
AL HIDAYAH CENTRE
Eastern Cape

